

# والدین اور سرپرست کے اکثر پوچھے گئے سوالات

اگر آپ کے سوال کا جواب یہاں نہ ملے تو [program@readahead.org](mailto:program@readahead.org) پر ای میل کریں یا Director، Courtney Wong، Strategic partnerships کو 212-965-2294 پر میسج/کال کریں۔

**زوم کے ذریعہ Read Ahead نشست میں حفاظت کے لیے آپ کون سے اقدامات لیتے ہیں؟**

- ہم نے ورچوئل رہنمائی پروگرام اپنے پارٹنر اسکولوں اور ماہر وکیلوں کے ساتھ بنایا ہے۔
- Read Ahead کی ویڈیو کال **زوم** کے ذریعہ ہوتی ہے جو کہ بچے کی حفاظت برقرار رکھتی ہے۔
- بچوں اور اساتذہ کی نگرانی ایک پروگرام کارڈنیٹر کرتا ہے، جو کہ Read Ahead کا آپ کے بچے کے اسکول کو تفویض کردہ اسٹاف ممبر ہوتا ہے۔ اساتذہ کی اسکریننگ **Sterling Volunteers** کرتے ہیں جو کہ ایک 40 سال کے تجربہ والی اسکریننگ کمپنی ہے۔
- **زوم بریک آؤٹ روم** کی نشست کے دوران جوڑیوں کو پروگرام کارڈنیٹر مانیٹر کرتا ہے اور مدد بھی دیتا ہے تصادفی طور پر چیک ان کر کے۔ طلباء کسی بھی وقت پروگرام کارڈنیٹر کی مدد لے سکتے ہیں یا استاد کے ساتھ بریک آؤٹ روم چھوڑ سکتے ہیں اور مین زوم نشست میں پروگرام کارڈنیٹر کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔

**شیڈولنگ کیسے کام کرے گی؟**

- ہم طلباء کے لیے Read Ahead نشست گھر سے ہفتے کے کسی بھی دن رکھنے کا منصوبہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنا شیڈول تب تک مکمل نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے پارٹنر اسکولوں سے خزان شیڈول کے بارے میں معلومات حاصل نہ کریں۔ ہماری نشستیں 45 منٹ کی ہونگی جو کہ 11 سے 3:30 کے بیچ ہونگی اور زیادہ تر 11:30 سے 2 کے دوران ہونگی۔
- ہمارے پروگرام کارڈنیٹر طلباء کے سرپرستوں کو ہر نشست کی معلومات دینگے۔ ہم ہر طلباء کو اپنی نشست منتخب کرنے کے لیے ایک سے زیادہ وقت کے سلاٹ دینگے جو ان کے کنبے کے لیے مناسب ہوگا۔ مہربانی کر کے یہ دھیان رکھیں کہ نشست میں جگہ بھر جانے پر شاید ویٹ لسٹ میں انتظار کرنا پڑے گا خاص طور اگر آپ کا بچہ ہر وقت موجود نہ ہو۔

**کیا ہوگا اگر اسکول کا پڑھائی کا شیڈول بیچ سال بدل جائے؟**

- ہم آپ اور آپ کے بچے کے اسکول کے ساتھ کام کر کے ایک نیا نشست وقت ڈھونڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ہم طلباء کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں جس سے ان کا Read Ahead اساتذہ کے ساتھ مسلسل رابطہ بنا رہے۔

**والدین/سرپرست کا کردار کیا ہے؟**

- آپ اپنے بچے کے بہترین حمایتی اور معاون ہیں۔ ہم آپ کی بصیرت کی قدر کرتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کریں۔ یہ آپ اپنے اجازت فارم میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام کارڈنیٹر آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ منتظر ہوتا ہے اور وہ آپ کو آپ کے بچے کی ترقی کے بارے میں پورے سال آگاہ کرتا رہے گا۔ ہم پروگرام کو آرڈینیٹر کے ساتھ آپ کے بچے کی ہفتہ وار حاضری کے بارے میں بات کرنے میں آپ کی مدد پر خاص طور پر انحصار اور ستائش کریں گے۔

- آپ اپنے بچے کی پہلا ورچوئل نشست میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ان کے اساتذہ اور پروگرام کارڈنیٹر سے ملاقات کریں۔ اس نشست کے بعد Read Ahead میں آپ کے بچے کا وقت Read Ahead کے دوستوں اور اساتذہ کے ساتھ گزرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رہنمائی سب سے بہتر جب کام کرتی ہے جب وہ ایک طالب علم اور استاد کے مابین ون آن ون کی بنیاد پر ہو۔ آپ کو باقی Read Ahead نشست میں خود موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

- مہربانی کر کے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ computer/tablet/iPad سے لاگ ان کرے تاکہ ہر ہفتے کی نشست میں شامل ہو! (لگ بھگ ساری ورچوئل رہنمائی اور نشستیں گھر سے براہ راست ہونگی۔)

**میرا کون سا بچہ شامل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک سے زیادہ بچے شامل ہو سکتے ہیں؟**

- Read Ahead 1-5 گریڈ میں ایک سرپرست اور ایک بچے کے درمیان ون آن ون مشق کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم اپنے پارٹنر اسکولوں کے ساتھ کام کر کے طلباء کو پہچان کر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا ای میل اپنے ایک بچے کے لیے ملا ہو اور آپ اپنے دوسرے بچوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو [program@readahead.org](mailto:program@readahead.org) پر ای میل کریں یا 212-965-2294 پر کال کریں۔

- بچے جو پہلی جماعت سے نیچے ہیں یا **ہمارے پارٹنر اسکولوں** میں داخل نہیں ہیں وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔
- ایک سے زیادہ بچے ایک ساتھ ایک نشست میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔

## میرے بچے کو شامل ہونے کے لیے کیا ٹیکنالوجی درکار ہوگی؟

- آپ کے بچے کو کمپیوٹر کی ویڈیو کال یا ٹیلیٹ کی ویڈیو کال کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ورچوئل نشست میں شامل ہو۔ سمارٹ فون Read Ahead کے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے کام نہیں کرے گا۔

## میرا بچہ 2019-2020 Read Ahead میں شامل تھا۔ کیا وہ واپس آکر پچھلے استاد کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے؟

- ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء اور اساتذہ کا رابطہ بنا کر رکھیں متعدد سالوں کے لیے لیکن یہ ہر بار ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اس کے پرانے استاد کے ساتھ ضروری رکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ دھیان رکھیں کہ آپ ایسا اجازت فارم میں لکھیں۔ اگر وہ استاد Read Ahead کے ساتھ واپس کام کرنا چاہے اور اگر شیڈول نے اجازت دی تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی درخواست پوری ہو۔

## میرا بچہ اب بھی انگریزی سیکھ رہا ہے۔ کیا وہ پھر بھی شامل ہو سکتا ہے؟

- ہمارے استاد ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں اور آپ کے بچے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اسے ایک ایسے استاد کے ساتھ میچ کیا جائے جو اس سے کسی دوسری زبان میں بات کر سکے کی بہتری کے لیے انہیں جانی ہوئی زبان کے استاد کے ساتھ کے لیے یہ بہتر ہے کہ اسے ایک ایسے استاد کے ساتھ میچ کیا جائے جو اس سے کسی دوسری زبان میں بات کر سکے۔ مہربانی کر کے یہ دھیان رکھیں کہ آپ یہ اجازت فارم میں لکھیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایسا ممکن ہو اور آپ سے یا اسکول عملہ سے رابطہ کریں گے اگر یہ ممکن نہ ہو۔

## Read Ahead کیسے میرے بچے کو فائدہ دیتا ہے؟

- ہمارے اساتذہ نجی توجہ دیتے ہیں اور یہ پروگرام کنبہ کی مثالی شخصیت کو بھی بروے کار لاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ طلباء کی ہر ممکن مدد اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ طلباء کی پڑھائی اور نجی زندگی میں اعتماد آئے Read Ahead طلباء کو منظم اور غیر منظم پڑھائی کی ضرورت کے ساتھ ساتھ کتابوں اور زندگی پر غور و فکر کے مواقع فراہم کرتے ہوئے طلباء کو آپس میں گروپ نشستوں میں سرگرم عمل رکھتے ہیں۔

## استاد کا کیا کردار ہے؟

- اساتذہ طلباء کو پڑھائی اور سماجی و جذباتی ترقی میں مدد کرتے ہیں۔ وہ طلباء کو ایک انوکھے ماحول میں سیکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت بخشتے ہیں۔ وہ طلباء کو مستقبل میں پڑھائی اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے بارے میں اپنی نجی زندگی کے تجربات سے واقف کراتے ہیں۔

## کیا آپ بک نک کے بارے میں اور بتا سکتے ہیں؟

- بک نک طلباء اور اساتذہ کو اچھے معیار کی انگریزی زبان کے آرٹس لیسن دیتا ہے۔ یہ طلباء کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھائی اور کھیل کا مزہ لے سکتے ہیں بک نک۔ مکمل معلمین کی تیار کردہ ہے اور سخت محنت و مشقت سے بنائی گئی ہے اور طلباء کے لئے بے حد دلچسپ ہے۔ اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو [website](#) پر جائیں۔

## پروگرام کے لیے پیسہ کون دیتا ہے؟

- Read Ahead 501(c) (3) نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائیوٹ چندے پر چلتی ہے۔ شرکت کرنے والے اسکولوں، طلباء اور خاندان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔